



## FIRE PROTECTION ASSOCIATION OF PAKISTAN

### اسکول میں آگ سے بچنے کی تدبیر



آگ کی صورت میں اسکول بیل کی مخصوص آواز اور دورانیہ کا تعین کیا جائے۔



باہر نکلنے کیلئے مناسب سمتی اشاروں کو آوازاں کریں۔



باہر نکلنے کے منصوبہ کی تکمیل کرتے وقت تمام اسٹاف کو بھی شامل کریں۔



آگ کی صورت میں کثیر المنزلہ عمارتوں سے باہر آتے وقت سیڑھیاں استعمال کریں۔



ایسی صورت میں لفٹ کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ باہر نکلنے کے تمام مقرر کردہ راستوں کا معائنہ کریں کہ آیا ان میں غیر ضروری سامان یا کوئی رکاوٹ تو نہیں۔



باہر نکلنے کے بعد جمع ہونے کیلئے کوئی ایک خاص جگہ اسمبلی ایریا منتخب کریں۔



## FIRE PROTECTION ASSOCIATION OF PAKISTAN



### گھر میں آگ کے خطرات کو تلاش کرنا Hunting for home fire hazards

چولہا جلتا چھوڑ کر بچن ہر گز نہ چھوڑیں۔

Never leave the Kitchen while the burner is on.



ڈھیچل، لمبی آستین والے کپڑے اور لٹکتے ہوئے سروں والا ڈوپٹہ پہن کر بچن میں ہر گز نہ جائیں۔ لہرن اور اسکارف کا استعمال کریں۔

Never work in kitchen while you are in loose and long sleeve clothing or in Dupatta. Use apron and scarf.

بچن میں مابچس بچوں کی پہنچ سے دور اور اوپر خانے میں رکھیں۔  
Keep match boxes in drawer at higher levels/out of children reach.



استری آن کر کے چھوڑنا انتہائی خطرناک ہے۔

Never leave Electrical Iron un-attended in on position.

## FIRE PROTECTION ASSOCIATION OF PAKISTAN



### اسموک الارم لگانا اور ٹیسٹ کرنا Installation & Testing Smoke Alarms



اسموک الارم آگ کی ابتدا ہی میں اُس کا پتہ چلا لیتے ہیں اور آپ کو تیز آواز کے ذریعے خبردار کر دیتے ہیں تاکہ آپ فوری طور پر حفاظت سے باہر نکل جائیں۔

Smoke alarms detect fires at their earliest stages & sound loud warning to help you & your Family get out safety.

ہر فلور پر کم از کم ایک اسموک الارم مرکزی مقام پر دیوار یا بجلی کی اشیاء سے 12 انچ دور لگائیں کہ اسکی آواز ہر جگہ خصوصاً سونے کے کمروں میں واضح سنائی دے۔



Fit one each floor at least (12 inches) away from any wall or light fitting. If you have only one alarm, fit it in a place where it can be heard throughout your home - particularly when you are asleep.



اسموک الارم کو مہینے میں ایک مرتبہ ضرور ٹیسٹ کریں اور اسکی بیٹری ہر سال لازمی طور پر تبدیل کریں۔

Check the battery once a month and changed it once a year.

Fire Protection Association of Pakistan(FPAP)

A-163, 13-D/1, Sahba Akhtar Road, Gulshan-e-Iqbal, Karachi.

+92-21-3496 3727

info@fpap.org.pk

+92-304-2775737

www.fpap.org.pk

facebook.com/fpaponline

Fire Protection Association of Pakistan(FPAP)

A-163, 13-D/1, Sahba Akhtar Road, Gulshan-e-Iqbal, Karachi.

+92-21-3496 3727

info@fpap.org.pk

+92-304-2775737

www.fpap.org.pk

facebook.com/fpaponline

Fire Protection Association of Pakistan(FPAP)

A-163, 13-D/1, Sahba Akhtar Road, Gulshan-e-Iqbal, Karachi.

+92-21-3496 3727

info@fpap.org.pk

+92-304-2775737

www.fpap.org.pk

facebook.com/fpaponline



## FIRE PROTECTION ASSOCIATION OF PAKISTAN

### بچوں کیلئے آگ سے بچاؤ کی تدبیر

ماچس کے ساتھ نہ کھیلیں  
آگ اور ہیٹر کے قریب کھڑے نہ ہوں اور کھیل کود نہ کریں۔  
آف کے قریب کوئی کھلونا کپڑے نہ چھوڑیں۔



بجلی سے استعمال ہونے والی ہر چیز کو استعمال کے بعد بورڈ سے  
علیحدہ کر دیں۔ بجلی سے چلنے والی ہر مشین اسطرح نہیں بنی ہوتی  
ہے کہ تمام وقت کھلی رہے۔



فائر ایمر جنسی کے متعلق اپنے والدین سے بات کریں۔

### روزانہ سوتے وقت اپنے آپ سے پوچھیے

کیا میں نے بجلی کی اشیاء کے سوچ ٹھیک طرح سے بند کر دیئے ہیں۔  
کیا آگ لگنے کی صورت میں میرے باہر نکلنے کا راستہ واضح ہے؟

اگر آپ کے گھر میں خدائے خداست آگ لگ جائے تو آپ کیلئے وہاں سے  
نکلنا آسان ہو گا اگر آپ نے پہلے سے ہی نکلنے کا راستہ سوچا ہوا ہے۔

فرض کریں آپ کے گھر میں آگ لگنا شروع ہو چکی ہے اور آپکو اس کا علم ہوتا ہے۔ آپ کیا کریں گے۔

- آگ لگ چلائی یا کسی بڑے کو فوراً بتائیں۔
- باہر نکلیں، دوسروں کو بھی باہر نکالیں اگر آپ نکال سکتے ہیں، لیکن اپنی جان پر خطرہ مول نہ لیں۔
- باہر ہی رہیں اور کسی بھی چیز کیلئے واپس نہ جائیں آپکی زندگی، آپ کے کھلونوں اور آپ کے پالتو جانوروں سے زیادہ قیمتی ہے۔

آگ لگ جانے کی صورت میں 16 پر ڈائل کریں

Fire Protection Association of Pakistan (FPAP)

A-163, 13-D/1, Sahba Akhtar Road, Gulshan-e-Iqbal, Karachi.

+92-21-3496 3727

info@fpap.org.pk

+92-304-2775737

www.fpap.org.pk

facebook.com/fpaponline

## FIRE PROTECTION ASSOCIATION OF PAKISTAN



کئی پتھی تاریں اور خراب حالت والے پلگ، ساکت اور  
بٹن تبدیل کرالیں۔ اسٹیشنیشن وائر سے ہر ممکنہ گریز  
کریں اور مطلوبہ تعداد میں دیواروں پر ساکت لگوائیں۔

Replace frayed/cracked electric wiring and damaged  
plugs, sockets and switches. Avoid extension  
cords and have wall sockets in required numbers.

بستر پر لیٹ کر قطعی سگریٹ نہ پیئیں۔ لٹش ٹرے،  
پر دوں، کاغذات اور دوسری جلنے والی اشیاء سے دور رکھیے۔



Don't smoke in bed. Keep ashtray away from curtains,  
paper and other combustibles.



گھر کو صاف رکھیں۔ صاف ستھری جگہیں  
آگ کے لئے کم کشش رکھتی ہیں۔

Good housekeeping leads to fire  
prevention. Keep your home  
neat, tidy and clean

Fire Protection Association of Pakistan (FPAP)

A-163, 13-D/1, Sahba Akhtar Road, Gulshan-e-Iqbal, Karachi.

+92-21-3496 3727

info@fpap.org.pk

+92-304-2775737

www.fpap.org.pk


facebook.com/fpaponline

## FIRE PROTECTION ASSOCIATION OF PAKISTAN



### گھر میں فائر ڈرل کرنا Practicing home Fire Escape Plan

گھر کے تمام افراد بشمول بچوں کے ساتھ  
مشورہ کیجئے اور آگ کی صورت میں گھر  
سے نکلنے کے راستوں کا آج ہی تعین کیجئے۔



Discuss with family members including  
Childrens and make an escape Plan.



کثیر المنزلہ عمارتوں میں ہنگامی اخراج کے لئے ہمیشہ سیڑھیاں  
استعمال کیجئے۔ آگ کی صورت میں لفٹ ہرگز استعمال نہ کریں۔

Use stairways in multi story buildings. Never  
use lift during Fire Emergencies.

باہر نکلنے کے بعد جمع ہونے کے لئے ایک  
استمبلی ایریا مخصوص کر لیں اور ڈرل کے  
دوران وہاں پہنچ کر سب لوگوں کی گنتی  
کریں کہ آیا کوئی اندر چھنسا تو نہیں رہ گیا۔



Designate an assembly area and practice head count  
during the drill.

دھوئیں کی صورت میں پیچے کی طرح گھٹنوں  
اور ہاتھوں پر چلتے ہوئے باہر نکل جائیں۔



Crawl low in smoke.

Fire Protection Association of Pakistan (FPAP)

A-163, 13-D/1, Sahba Akhtar Road, Gulshan-e-Iqbal, Karachi.

+92-21-3496 3727

info@fpap.org.pk

+92-304-2775737

www.fpap.org.pk

facebook.com/fpaponline